

Man is Paid What He Earns

Man is Paid What He Earns کسب As Mentioned in AlQuran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AlAnaam6:3,70,120,164 Allah knows what man is earning of his deeds

اور وہی تو ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں - جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری (باتیں) اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم جو کھاتے ہو۔

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ

اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انکو دنیا کی زندگی نے۔ اور نصیحت کرتے رہو اس (قرآن) سے تاکہ (نہ) پکڑا جائے کوئی شخص بسبب جو اس نے کھایا۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّ غَرْتَهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَّ ذَكَرْ بِهٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپا ہوا بھی - یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں گناہ عنقریب سزا پائیں گے وہ اس کی جو برے کام وہ کرتے تھے۔

وَذَرُوْا ظٰهَرَ الْاِثْمِ وَّبٰطِنَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

ممدو کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں کوئی رب - جبکہ وہی رب ہے ہر چیز کا۔ اور نہیں کھاتا کوئی شخص مگر وہ ہے اس ہی کے اوپر۔ اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔

قُلْ اَغْيَرَ اللّٰهُ اَبْعٰی رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَاِزْرًا وَّزْرًا اٰخَرٰی

AlBaqarah2:79,81,134,202, Those who altered Book of Allah will pay

سو خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا

حاصل کریں اس کے عوض قیمت تھوڑی سی۔ سو خرابی ہے ان کے لئے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور خرابی ہے ان کے لئے اس بنا پر جو وہ کھاتے ہیں۔

قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ لِمَا كَسَبَتْ آيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ لِمَا يَكْسِبُونَ

کیوں نہیں جس نے کھائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

یہ تھی ایک جماعت جو گذر چکی۔ اس کے لئے جو اس نے کمایا اور تمہارے لئے جو تم کھاؤ گے۔ اور نہ پوچھا جائے گا تم سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

یہی لوگ ہیں جنکے لئے حصہ ہے اسکا جو کمایا انہوں نے۔ اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

AlBaqarah2:281,286 Every soul will pay back what it earned

اور ڈرو اس دن سے لوٹا دیے جاؤ گے تم جس میں اللہ کی طرف۔ پھر پورا بدلہ پانے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا اور ان پر نہ ظلم ہوگا۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اسکی وسعت کے مطابق۔ اسی کے لئے ہے (اجر اسکا) جو اس نے کمایا۔ اور اسی پر ہے (وبال اسکا) جو اس نے کمایا۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

AalImran3:25 Day of gathering is the day of payment of worldly earning

تو کیا حال ہو گا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن نہیں کوئی شک جس میں۔ اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اسکا جو اس نے کمایا اور ان پر نہیں ظلم کیا جائیگا۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ الرَّيبِ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

AnNisa4:111,112 Blaming innocent of your sin is an evil earning

اور جو کوئی کھاتا ہے گناہ تو بس وہ کھاتا ہے اس کو اپنی جان پر۔ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور جو کوئی کھاتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہتان اور کھلے گناہ کا۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

AlMaida5:38

Exemplary punishment for thief

اور چور مرد اور چور عورت۔ کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے۔ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ زبردست ہے صاحب حکمت ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

AlAaraf7:39 People in Hell will blame each other of what they earned

اور کہے گی انکی اگلی جماعت انکے پچھلوں سے تو نہ ہوئی تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت۔ تو چکھو مزا عذاب کا اسکے بدلے میں جو تم کھاتے رہے۔

وَقَالَتْ أُولَهُمُ لِأَخْرَجَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

AlAaraf7:96 Nations lost worldly blessings of what their hands earned

اور اگر یہ کہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے لیکن جھٹلایا انہوں نے۔ سو پکڑ لیا ہم نے انکو بسبب اس کے جو وہ کھاتے رہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

AtTauba9:82 Laugh little but you will cry lot for what you are earning

چاہیے کہ وہ ہنس لیں تھوڑا سا اور رونا ہو گا بہت زیادہ۔ بدلے میں اس کے جو وہ کھاتے رہے ہیں۔

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Younus10:7,8,27

People are happy here but their abode is fire

یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملنے کی اور راضی ہیں دنیا کی زندگی پر اور مطمئن ہیں اسی پر اور وہ لوگ جو ہماری نشانہوں سے غافل ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے بسبب اس کے جو وہ کھاتے رہے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ - أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور وہ لوگ جنہوں نے کمانیں برائیاں تو بدلہ برائی کا ویسا ہی

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا

ARaad13:42

Allah knows what man will earn tomorrow

اور بیشک چالیں چل چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے
- سو اللہ کی ہوتی ہے تدبیر پوری کی پوری - وہ جانتا ہے جو کچھ
کاتا ہے ہر ذی روح۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ

Ibrahim14:18 The deeds of disbelievers are wasted

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ
انکے اعمال ایسی راکھ کے مانند کہ اڑا لے جائے جسکو آندھی
ایک طوفانی دن میں نہیں قدرت ہو سکے گی انہیں جو انہوں
نے کمایا اس پر کچھ بھی یہی تو ہے وہ گمراہی بہت دور کی۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ
اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا
كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۗ ذَلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ

AlKahaf18:58 Allah's mercy delays punishment

اور تیرا رب ہے بخشنے والا رحمت کرنے والا۔ اگر وہ گرفت کر
تا انکی اس پر جو انہوں نے کمایا تو جلد لے آتا ان پر عذاب۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا
كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ

ArRoom30:41 Man is causing corruption on earth

پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں بسبب اس کے جو
کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے تاکہ وہ چکھائے انکو مزہ بعض وہ
جو انہوں نے اعمال کئے۔ شاید کہ وہ باز آجائیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

AlAhzab33:58 Causing pain to believing man and women is like carrying sin

اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو
بغیر اسکے جو انہوں نے کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر
بہتان اور صریح گناہ۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا
اَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

